

COVID-19 کے ٹیکے سے متعلق ہماری

امدادی خدمت

NHS کی تاریخ میں COVID-19 صحت عامہ کی واحد سب سے بڑی ایمرجنسی رہی ہے۔

COVID-19 کی ٹیکہ کاری سے COVID-19 کے مرض میں آپ کے مبتلا ہونے کا امکان کم ہوگا۔ تمام دواؤں کی طرح، کوئی بھی ٹیکہ پوری طرح سے مؤثر نہیں ہے اور آپ کو ٹیکہ لگوا لینے کے بعد آپ کے جسم کو تحفظ تیار کرنے میں چند ہفتے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اب بھی ٹیکہ کاری کروانے کے باوجود COVID-19 ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی انفیکشن کی شدت کو کم کر دے گا۔

ٹیکے سے آپ کو COVID-19 کا انفیکشن نہیں ہو سکتا ہے اور دو خوراکیں سنگین حد تک بیمار ہونے کے آپ کے امکان کو کم کر دیں گی۔ آپ کو اب بھی حکومت کی رہنمائی پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تمام دواؤں کی طرح، ٹیکے ضمنی اثرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر معمولی اور قلیل مدتی ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی کو نہیں ہوتے ہیں

آپ کے ٹیکے کے لیے NHS یا GP کا

دعوت نامہ

آئندہ ہفتوں میں آپ کو ایک خط موصول ہوگا جس میں آپ سے اپنے ٹیکے کی بکنگ کروانے کو کہا جائے گا۔

یہ خط یا تو آپ کو آن لائن بکنگ کروانے کی یا ایک اپائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے 119 پر کال کرنے کی دعوت دے گا۔

ٹیکے سے متعلق تعاون – ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں

اپنی سلاٹ آپ کے بک کر لینے پر، یا اگر آپ کو بکنگ میں مدد درکار ہو تو، ہم آپ سے ہمارے ہوم اینڈ کیئر سروسز مینیجر کو موبائل: 07754 751 079 یا ہمارے ریسپشن کو 020 8981 7124 پر کال کرنے کی گزارش کریں گے۔

آپ کے ٹیکے والے دن ہوم اینڈ کیئر کی ہماری ایک ٹیم کسی Uber کیب میں آپ کو لے کر آئے گی اور آپ کو ٹیکے کی منزل مقصود پر لے جایا جائے گا۔ آپ کی ٹیکہ کاری ہونے تک ہم آپ کے ساتھ انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ خدمت پورے ٹاور ہیلٹس، نیوہام، سٹی اینڈ ہیکنے اور والتھم فاریسٹ میں دستیاب ہے۔

آپ پر اس کی کوئی لاگت نہیں آتی ہے کیونکہ یہ خدمت مفت ہے۔

ہوم اینڈ کیئر کی ہماری ٹیم

ایچ یو کے ایسٹ لندن کے تمام عملہ اور رضاکاران کی حدرجہ افشاء اور ممانعت کی جانچیں ہوئی ہیں جن کو ہر 3 سال پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔

خدمت کا معیار

جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں ہم ہر عمر دراز فرد کا ساتھ نہیں دے پائیں گے لہذا ایک سخت معیار ہوگا جو ذیل میں مندرج ہے:-

- 65 سال سے زائد عمر والا یہ کہ ڈیمینشیا یا اس سے ملتی جلتی کیفیت کی تشخیص ہوئی ہو۔
- تنہا یا دیگر ایسے فرد کے ساتھ رہتے ہوں جو خدمت کا معیار پورا کرتا ہو۔
- کوئی فیملی یا ایسے دوست نہ ہوں جو ان کا ساتھ دینے پر قادر ہوں۔
- آپ کو شیلڈنگ کا خط موصول ہوا ہو۔

ہم آپ کے GP اور/یا صحت و سماجی پیشہ ور فرد سے تصدیق کریں گے کہ آپ خدمت کا معیار پورا کرتے ہیں۔

حوالے

- GP
- نگہداشت صحت سے متعلق پیشہ ور فرد
- سماجی نگہداشت سے متعلق پیشہ ور فرد
- بذات خود (اہلیت کی تصدیق کی جانچ صحت اور/یا سماجی نگہداشت سے متعلق پیشہ ور فرد کی مدد سے کی جائے گی)



خدمت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،
براہ کرم ہوم اینڈ کیئر سروسز مینیجر کو اس
پر ٹیلیفون کریں:

موبائل: 07754 751 079

Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk

Covid-19

ٹیکے سے متعلق امدادی
خدمات



یا ہمارے صدر دفتر کی ریسپشن ٹیم سے ہم
سے رابطہ کریں:

Age UK East London
82 Russia Lane
E2 9LU

ای میل: info@ageukeastlondon.org.uk

ٹیلیفون: 020 8981 7124

9.30 بجے صبح تا 5.30 بجے شام
پیر تا جمعہ

دیگر اوقات میں آنسر فون دستیاب ہے



The Organisational Quality
Standards are endorsed by
the Charity Commission



ایج یو کے ایسٹ لندن ایک رضاکار تنظیم
اور رجسٹرڈ چیریٹی ہے۔ ہم 50+ سال کی
عمر کے لوگوں کے ساتھ اور ان کے لیے
خدمات فراہم کرنے اور ان کی آراء کی
نمائندگی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔

ہماری خدمات میں شامل ہیں:

- معلومات اور مشورہ
 - وکالت
 - ہوم اینڈ کیئر سروسز
 - دوستیاں کرنا
 - ڈیجیٹل تعاون
 - لنچ کلبز
 - امدادی فرد کی خدمات
 - اسپتال سے ڈسچارج ہونے سے متعلق
امدادی خدمات
 - ہماری خدمات کی ایک پوری رینج ہماری ویب
سائٹ پر مل سکتی ہے
- www.ageukeastlondon.org.uk